

Luk

Chapter 15

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1	Ἦσαν	δὲ	αὐτῶ	ἐγγίζοντες	πάντες	οἱ	τελῶναι	καὶ	οἱ
	تھے	لیکن	اُس-کے-قرب	آتے-بوئے	سب	یہ	محصول-لینے-والے	اور	یہ
	G1510	G1161	G0846	G1448	G3956	G3588	G5057	G2532	G3588
	ἀμαρτωλοὶ	ἀκούειν	αὐτοῦ;						
	گنہگار	سننے	اُس-کی						
	G0268	G0191	G0846						

تھے۔ آتے پاس کے اُس لئے کے سننے باتیں کی عیسیٰ گار گناہ اور والے لینے ٹیکس تمام کہ تھا ایسا اب

2	καὶ	διεγόγγυζον	οἱ	τε	Φαρισαῖοι	καὶ	οἱ	γραμματεῖς,	λέγοντες,	ὅτι
	اور	بڑبڑاتے-تھے	یہ	بھی	فریسی	اور	یہ	فقیہ	کہتے-بوئے	کہ
	G2532	G1234	G3588	G5037	G5330	G2532	G3588	G1122	G3004	G3754
	Οὗτος	ἀμαρτωλοῦς	προσδέχεται	καὶ	συνεσθίει	αὐτοῖς.				
	یہ	گنہگاروں-کو	قبول-کرتا-ہے	اور	ساتھ-کھاتا-ہے	اُن				
	G3778	G0268	G4327	G2532	G4906	G0846				

ہے۔ کھاتا کھانا ساتھ کے اُن کر کہ آمدید خوش کو گاروں گناہ آدمی] یہ لگے، بڑبڑانے عالم کے شریعت اور فریسی کر دیکھ یہ

3	εἶπεν	δὲ	πρὸς	αὐτοῦς	τὴν	παραβολὴν	ταύτην,	λέγων,
	کہا	لیکن	سے	اُن	یہ	تمثیل	یہ	کہتے-بوئے
	G3004	G1161	G4314	G0846	G3588	G3850	G3778	G3004

سنائی، تمثیل یہ انہیں نے عیسیٰ پر اس

4	Τίς	ἄνθρωπος	ἐξ	ὑμῶν,	ἔχων	ἑκατὸν	πρόβατα,	καὶ	ἀπολέσας	ἐξ	
	کون	آدمی	میں-سے	تم	رکھتے-بوئے	سو	بھیڑیں	اور	کھو-کر	میں-سے	
	G5101	G0444	G1537	G4771	G2192	G1540	G4263	G2532	G0622	G1537	
	αὐτῶν	ἓν,	οὐ	καταλείπει	τὰ	ἐνενήκοντα	ἐννέα	ἐν	τῇ	ἐρήμῳ,	καὶ
	اُن	ایک	نہیں	چھوڑتا	کو	نوے	نوے	میں	اُس	بیابان	اور
	G0846	G1520	G3756	G2641	G3588	G1768	G1767	G1722	G3588	G2048	G2532
	πορεύεται	ἐπὶ	τὸ	ἀπολωλὸς,	ἕως	εὕρη	αὐτό?				
	جاتا-ہے	پیچھے	اُس	کھوئی-بوئی	جب-تک	پائے	اُسے				
	G4198	G1909	G3588	G0622	G2193	G2147	G0846				

گم کر چھوڑ میں میدان کھلے بھیڑیں 99 باقی وہ کیا گا؟ کرے کیا مالک اب ہے۔ جاتی ہو گم ایک لیکن ہیں۔ بھیڑیں سو کی کسی سے میں تم کہ کرو] فرض
گارے میں تلاش کی اُس وہ جائے نہ مل بھیڑ وہ اُسے تک جب بلکہ گا، جائے ضرور گا؟ جائے نہیں ڈھونڈنے کو بھیڑ شدہ

5	καὶ	εὐρών,	ἐπιτίθουσιν	ἐπὶ	τοὺς	ὠμούς	αὐτοῦ,	χαίρων.
	اور	پا-کر	رکھتا-ہے	پر	اُن	کندھوں	اپنے	خوشی-سے
	G2532	G2147	G2007	G1909	G3588	G5606	G0846	G5463

گا۔ لے اُنہا پر کندھوں اپنے اُسے کر ہو خوش وہ پھر

6 καὶ ἔλθων εἰς τὸν οἶκον, συναλεῖ τοὺς φίλους καὶ τοὺς γείτονας,
اور آکر میں اُس گھر بلاتا ہے کو دوستوں اور کو پڑوسیوں
[G2532](#) [G2064](#) [G1519](#) [G3588](#) [G3624](#) [G4779](#) [G3588](#) [G5384](#) [G2532](#) [G3588](#) [G1069](#)

λέγων αὐτοῖς, Συνχάρητέ μοι, ὅτι εὗρον τὸ πρόβατόν μου, τὸ
کہتے ہوئے انہیں مل کر خوشی مناؤ میرے ساتھ کیونکہ پایا ہے کو بھیڑ میری جو
[G3004](#) [G0846](#) [G4796](#) [G1473](#) [G3754](#) [G2147](#) [G3588](#) [G4263](#) [G1473](#) [G3588](#)

ἀπολωλός!

کھوئی ہوئی
[G0622](#)

اپنی مجھے کیونکہ مناؤ! خوشی ساتھ میرے گا، کہے سے اُن کر بُلا کو سایوں ہم اور دوستوں اپنے وہاں اور گا جائے پہنچ گھر اپنے وہ چلتے چلتے یوں ہے۔ گئی مل بھیڑ ہوئی کھوئی

7 λέγω ὑμῖν ὅτι οὕτως χαρὰ ἐν τῷ οὐρανῷ ἔσται ἐπὶ ἐνὶ
کہتا ہوں تمہیں کہ اسی طرح خوشی میں اُس میں آسمان ہوگی پر ایک
[G3004](#) [G4771](#) [G3754](#) [G3779](#) [G5479](#) [G1722](#) [G3588](#) [G3772](#) [G1510](#) [G1909](#) [G1520](#)

ἀμαρτωλῶ μετανοοῦντι, ἢ ἐπὶ ἐνενήκοντα ἐννέα δίκαιοις, οἵτινες οὐ χρεῖαν
گنہگار توبہ کرنے والے پر بنسبت نوے نوے راستبازوں جنہیں نہیں ضرورت
[G0268](#) [G3340](#) [G2228](#) [G1909](#) [G1768](#) [G1767](#) [G1342](#) [G3748](#) [G3756](#) [G5532](#)

ἔχουσιν μετανοίας.

رکھتے توبہ کی
[G2192](#) [G3341](#)

بہ زیادہ نسبت کی خوشی اُس خوشی یہ اور گا۔ کرے توبہ گار گناہ ہی ایک جب گی جائے منائی خوشی طرح اسی بالکل پر آسمان کہ ہوں بتاتا کو تم میں تھی۔ نہیں ہی ضرورت کی کرنے توبہ جنہیں گی جائے منائی باعث کے افراد 99 اُن جو گی

8 Ἡ τίς γυνή, δραχμὰς ἔχουσα δέκα, ἐὰν ἀπολέσῃ δραχμὴν μίαν, οὐχὶ
یا کون عورت درہم رکھتی ہوئی دس اگر کھو دے درہم ایک نہیں
[G2228](#) [G5101](#) [G1135](#) [G1406](#) [G2192](#) [G1176](#) [G1437](#) [G0622](#) [G1406](#) [G1520](#) [G3780](#)

ἄπει λύχρον, καὶ σαροῖ τὴν οἰκίαν, καὶ ζητεῖ ἐπιμελῶς ἕως οὗ
جلائی ہے چراغ اور اور جھاڑتی ہے کو گھر اور اور ڈھونڈتی ہے غور سے جب تک جب
[G0681](#) [G3088](#) [G2532](#) [G4563](#) [G3588](#) [G3614](#) [G2532](#) [G2212](#) [G1960](#) [G2193](#) [G3739](#)

εὕρη?

پائے
[G2147](#)

دے دے جھاڑو میں گھر اور کر جلا چراغ وہ کیا گی؟ کرے کیا عورت اب جائے۔ ہو گم سیکہ ایک لیکن ہوں سیکہ دس پاس کے عورت کسی کہ کرو فرض یا جائے۔ نہ مل سیکہ اُسے تک جب گی رہے ڈھونڈتی تک وقت اُس وہ بلکہ گی، کرے ضرور گی؟ کرے نہیں تلاش کو سیکہ سے احتیاط بڑی کر

9 καὶ εὐροῦσα, συναλεῖ τὰς φίλας καὶ γείτονας, λέγουσα, Συνχάρητέ
اور پا کر ہے بلاتی ہے کو سہیلیوں اور پڑوسنوں کہتی ہوئی مل کر خوشی مناؤ
[G2532](#) [G2147](#) [G4779](#) [G3588](#) [G5384](#) [G2532](#) [G1069](#) [G3004](#) [G4796](#)

μοι, ὅτι εὗρον τὴν δραχμὴν ἣν ἀπώλεσα.
میرے ساتھ کیونکہ پایا ہے کو درہم جو کھویا تھا
[G1473](#) [G3754](#) [G2147](#) [G3588](#) [G1406](#) [G3739](#) [G0622](#)

گیا مل سیکہ شدہ گم اپنا مجھے کیونکہ مناؤ! خوشی ساتھ میرے گی، کہے سے اُن کر بُلا کو سایوں ہم اور سہیلیوں اپنی وہ تو گا جائے مل سیکہ اُسے جب ہے۔

10 οὕτως, λέγω ὑμῖν, γίνεται χαρὰ ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ ἐπὶ
 پر خدا کے فرشتوں کے سامنے خوشی ہوتی ہے تمہیں کہتا ہوں اسی طرح
[G3779](#) [G3004](#) [G4771](#) [G1096](#) [G5479](#) [G1799](#) [G3588](#) [G0032](#) [G3588](#) [G2316](#) [G1909](#)
 ἐνὶ ἁμαρτωλῶ μετανοοῦντι.
 ایک گنہگار توبہ کرنے والے
[G1520](#) [G0268](#) [G3340](#)

ہے۔ کرتا توبہ گار گناہ بھی ایک جب ہے جاتی منائی خوشی سامنے کے فرشتوں کے اللہ طرح اسی بالکل کہ ہوں بتاتا کو تم میں

11 Εἶπεν δέ, ἄνθρωπός τις εἶχεν δύο υἱούς.
 کہا لیکن آدمی کسی رکھتا تھا دو بیٹے
[G3004](#) [G1161](#) [G0444](#) [G5100](#) [G2192](#) [G1417](#) [G5207](#)

تھے۔ بیٹے دو کے آدمی کسی رکھی۔ جاری بات اپنی نے عیسیٰ

12 καὶ εἶπεν ὁ νεώτερος αὐτῶν τῷ πατρὶ, Πάτερ, δός μοι τὸ
 اور کہا اُس چھوٹے اُن میں سے کو باپ ابا دے مجھے کو
[G2532](#) [G3004](#) [G3588](#) [G3501](#) [G0846](#) [G3588](#) [G3962](#) [G3962](#) [G1325](#) [G1473](#) [G3588](#)
 ἐπιβάλλον μέρος τῆς οὐσίας. ὁ δὲ διεῖλεν αὐτοῖς τὸν βίον.
 ملنے والا حصہ کا جائیداد اُس لیکن تقسیم کیا انہیں کو روزی
[G1911](#) [G3313](#) [G3588](#) [G3776](#) [G3588](#) [G1161](#) [G1244](#) [G0846](#) [G3588](#) [G0979](#)

دی۔ کر تقسیم ملکیت اپنی میں دونوں نے باپ پر اس دیں۔ دے حصہ میرا کا میراث باپ، اے کہا، سے باپ نے چھوٹے سے میں ان

13 καὶ μετ' οὗ πολλὰς ἡμέρας, συναγαγὼν πάντα, ὁ νεώτερος υἱὸς
 اور بعد نہیں بہت دنوں جمع کر کے سب اُس چھوٹے بیٹے
[G2532](#) [G3326](#) [G3756](#) [G4183](#) [G2250](#) [G4863](#) [G3956](#) [G3588](#) [G3501](#) [G5207](#)
 ἀπεδήμησεν εἰς χώραν μακράν, καὶ ἐκεῖ διεσκόρπισεν τὴν οὐσίαν αὐτοῦ,
 چلا گیا میں ملک دور اور وہاں ازا دیا کو جائیداد اپنی
[G0589](#) [G1519](#) [G5561](#) [G3117](#) [G2532](#) [G1563](#) [G1287](#) [G3588](#) [G3776](#) [G0846](#)
 ζῶν ἀσώτως.
 جیتے ہوئے بے لگامی سے
[G2198](#) [G0811](#)

دیا۔ ازا متاع و مال پورا اپنا میں عیاشی نے اُس وہاں گیا۔ لے میں ملک دُور دراز کسی ساتھ اپنے کر سمیٹ سامان سارا اپنا بیٹا چھوٹا بعد کے دنوں تھوڑے

14 δαπανήσαντος δὲ αὐτοῦ πάντα, ἐγένετο λιμὸς ἰσχυρὰ κατὰ τὴν χώραν
 خرچ کرنے کے بعد لیکن اُس کے سب ہوا قحط شدید میں اُس ملک
[G1159](#) [G1161](#) [G0846](#) [G3956](#) [G1096](#) [G3042](#) [G2478](#) [G2596](#) [G3588](#) [G5561](#)
 ἐκεῖνην, καὶ αὐτὸς ἤρξατο ὑστερεῖσθαι.
 اُس اور وہ شروع کیا کرنے تنگی
[G1565](#) [G2532](#) [G0846](#) [G0756](#) [G5302](#)

لگا۔ ہونے مند ضرورت وہ اب پڑا۔ کال سخت میں ملک اُس تو گیا بو ضائع کچھ سب

15 καὶ πορευθεὶς, ἐκολλήθη ἐνὶ τῶν πολιτῶν τῆς χώρας ἐκείνης, καὶ
 اور جا کر مل گیا ایک کے شہریوں کی ملک اُس اور
[G2532](#) [G4198](#) [G2853](#) [G1520](#) [G3588](#) [G4177](#) [G3588](#) [G5561](#) [G1565](#) [G2532](#)
 ἔπειμψεν αὐτὸν εἰς τοὺς ἀγροὺς αὐτοῦ βόσκειν χοίρους.
 بھیجا اُسے میں اُن کھیتوں اپنے چرانے سوروں
[G3992](#) [G0846](#) [G1519](#) [G3588](#) [G0068](#) [G0846](#) [G1006](#) [G5519](#)

دیا۔ بھیج میں کھیتوں اپنے لئے کے چرانے کو سُوروں اُسے نے جس پڑا جا ہاں کے باشندے کسی کے ملک اُس وہ میں نتیجے

- 21 εἶπεν δὲ ὁ υἱὸς αὐτοῦ, Πάτερ, ἡμάρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ
 کہا لیکن اُس بیٹے اُسے ابا گناہ-کیا-یے میں اُس آسمان اور اور
 G3004 G1161 G3588 G5207 G0846 G3962 G0264 G1519 G3588 G3772 G2532
- ἐνώπιόν σου; οὐκέτι εἰμι ἄξιος κληθῆναι υἱὸς σου. (ποιήσον με ὡς
 سامنے تیرے اب-سے-نہیں ہوں لائق کہلانے-کے بیٹا تیرا بنا-دے مجھے جیسا
 G1799 G4771 G3765 G1510 G0514 G2564 G5207 G4771 G4160 G1473 G5613
- ἓνα τῶν μισθίων σου).
 ایک کے مزدوروں تیرے
 G1520 G3588 G3407 G4771

کہلاؤں۔ بیٹا کا آپ کہ رہا نہیں لائق اس میں اب ہے۔ کیا گناہ کا آپ اور کا آسمان نے میں باپ، اے کہا، نے بیٹے

- 22 εἶπεν δὲ ὁ πατήρ πρὸς τοὺς δούλους αὐτοῦ, Ταχὺ ἐξενέγκατε στολὴν
 کہا لیکن اُس باپ سے کو غلاموں اپنے جلدی نکالو چوغہ
 G3004 G1161 G3588 G3962 G4314 G3588 G1401 G0846 G5035 G1627 G4749
- τὴν πρώτην, καὶ ἐνδύσατε αὐτόν, καὶ δότε δακτύλιον εἰς τὴν χεῖρα
 پہ اول اور اور پہناؤ اُسے اور دو انگوٹھی میں اُس ہاتھ
 G3588 G4413 G2532 G1746 G0846 G2532 G1325 G1146 G1519 G3588 G5495
- αὐτοῦ, καὶ ὑποδήματα εἰς τοὺς πόδας;
 اُس-کے اور جوتے میں اُن پاؤں
 G0846 G2532 G5266 G1519 G3588 G4228

دو-پہنا جوتے میں پاؤں اور انگوٹھی میں ہاتھ کے اس پہناؤ۔ اسے کر لا سوٹ بہترین کرو، جلدی کہا، اور بلایا کو نوکروں اپنے نے باپ لیکن

- 23 καὶ φέρετε τὸν μόσχον τὸν σιτευτόν, θύσατε, καὶ φαγόντες, εὐφρανθῶμεν.
 اور لاؤ کو بچھڑے یہ موٹے ذبح-کرو اور کھا-کر اور خوشی-منائیں
 G2532 G5342 G3588 G3448 G3588 G4618 G2380 G2532 G5315 G2165

منائیں، خوشی اور کھائیں ہم تاکہ کرو ذبح اُسے کر لا بچھڑا تازہ موٹا پھر

- 24 ὅτι οὗτος ὁ υἱὸς μου νεκρὸς ἦν, καὶ ἀνέζησεν; ἦν ἀπολωλώς,
 کیونکہ یہ یہ بیٹا میرا مردہ تھا اور جی-اٹھا تھا کھویا-ہوا
 G3754 G3778 G3588 G5207 G1473 G3498 G1510 G2532 G0326 G1510 G0622
- καὶ εὐρέθη. καὶ ἤρξαντο εὐφραίνεσθαι.
 اور ملا اور اور شروع-کیا خوشی-منانا
 G2532 G2147 G2532 G0756 G2165

لگے۔ منانے خوشی وہ پر اس ہے۔ گیا مل اب تھا گیا ہو گم ہے، گیا ہو زندہ اب تھا مُردہ بیٹا میرا یہ کیونکہ

- 25 ἦν δὲ ὁ υἱὸς αὐτοῦ, ὁ πρεσβύτερος, ἐν ἀγρῶ; καὶ ὡς
 تھا لیکن یہ بیٹا اُس-کا یہ بڑا میں کھیت اور جیسے
 G1510 G1161 G3588 G5207 G0846 G3588 G4245 G1722 G0068 G2532 G5613
- ἐρχόμενος, ἤγγισεν τῇ οἰκίᾳ, ἤκουσεν συμφωνίας καὶ χορῶν.
 آتے-ہوئے نزدیک-آیا کے گھر سنا باجے اور ناچوں
 G2064 G1448 G3588 G3614 G0191 G4858 G2532 G5525

دیں۔ سنائی آوازیں کی ناچنے اور موسیقی سے اندر تو پہنچا قریب کے گھر وہ جب لوٹا۔ گھر وہ اب تھا۔ میں کھیت بیٹا بڑا کا باپ دوران اس

- 26 καὶ προσκαλεσάμενος ἓνα τῶν παιδων, ἐπυνθάνετο τί ἂν εἶη ταῦτα.
 اور بلا-کر ایک کے نوکروں پوچھا کیا شاید ہو یہ-باتیں
 G2532 G4341 G1520 G3588 G3816 G4441 G5101 G0302 G1510 G3778

ہے؟ رہا ہو کیا یہ پوچھا، کر بلا کو نوکر کسی نے اُس

27 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ ὅτι, Ὁ ἀδελφός σου ἦκει, καὶ ἔθυσεν ὁ
 اُس لیکن کہا اُسے کہ یہ بھائی تیرا آیا ہے اور ذبح کیا اُس
[G3588](#) [G1161](#) [G3004](#) [G0846](#) [G3754](#) [G3588](#) [G0080](#) [G4771](#) [G2240](#) [G2532](#) [G2380](#) [G3588](#)

πατήρ σου τὸν μόσχον τὸν σιτευτόν, ὅτι ὑγιαίνοντα αὐτὸν ἀπέλαβεν.
 باپ تیرے کو بچھڑے یہ موٹے کیونکہ تندرست اُسے پایا
[G3962](#) [G4771](#) [G3588](#) [G3448](#) [G3588](#) [G4618](#) [G3754](#) [G5198](#) [G0846](#) [G0618](#)

ہے۔ گیا مل واپس سلامت صحیح بیٹا اپنا اُسے کیونکہ ہے، کروایا ذبح بچھڑا تازہ موٹا نے باپ کے آپ اور بے گیا آ بھائی کا آپ دیا، جواب نے نوکر

28 ὠργίσθη δὲ, καὶ οὐκ ἤθελεν εἰσελθεῖν. ὁ δὲ πατήρ αὐτοῦ, ἐξελθὼν,
 غصہ کیا لیکن اور نہیں چاہتا تھا جانا اُس لیکن باپ اُس کے باپ آ کر
[G3710](#) [G1161](#) [G2532](#) [G3756](#) [G2309](#) [G1525](#) [G3588](#) [G1161](#) [G3962](#) [G0846](#) [G1831](#)

παρεκάλει αὐτόν.
 مناتا تھا اُسے
[G3870](#) [G0846](#)

لگا۔ سمجھانے اُسے کر نکل سے گھر باپ پھر دیا۔ کر انکار سے جانے اندر اور ہوا غصے بیٹا بڑا کر سن یہ

29 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς, εἶπεν τῷ πατρὶ «αὐτοῦ», Ἴδου, τοσαῦτα ἔτη
 اُس لیکن جواب دے کر کہا کو باپ اپنے دیکھو اتنے سال
[G3588](#) [G1161](#) [G0611](#) [G3004](#) [G3588](#) [G3962](#) [G0846](#) [G3708](#) [G5118](#) [G2094](#)

δουλεύω σοι, καὶ οὐδέποτε ἐντολήν σου παρήλθον, καὶ ἐμοὶ οὐδέποτε
 خدمت کرتا ہوں تیری اور کبھی نہیں حکم تیرا نالا اور مجھے کبھی نہیں
[G1398](#) [G4771](#) [G2532](#) [G3763](#) [G1785](#) [G4771](#) [G3928](#) [G2532](#) [G1473](#) [G3763](#)

ἔδωκας ἔριφον, ἵνα μετὰ τῶν φίλων μου εὐφρανθῶ.
 دیا بکری کا بچہ تاکہ ساتھ کے دوستوں میرے خوشی مناؤں
[G1325](#) [G2056](#) [G2443](#) [G3326](#) [G3588](#) [G5384](#) [G1473](#) [G2165](#)

مرضی کی آپ بھی دفعہ ایک اور بے کی مشقت محنت سخت میں خدمت کی آپ سال اتنے نے میں دیکھیں، کہا، سے باپ اپنے میں جواب نے اُس لیکن کرتا۔ ضیافت ساتھ کے دوستوں اپنے کے کر ذبح اُسے کہ دیا نہیں بھی بکرا چھوٹا ایک میں عرصے پورے اس مجھے نے آپ تو بھی کی۔ نہیں ورزی خلاف کی

30 ὅτε δὲ ὁ υἱός σου οὗτος, ὁ καταφαγὼν σου τὸν βίον μετὰ
 جب لیکن یہ بیٹا تیرا یہ جو کھا گیا تیری کو روزی ساتھ
[G3753](#) [G1161](#) [G3588](#) [G5207](#) [G4771](#) [G3778](#) [G3588](#) [G2719](#) [G4771](#) [G3588](#) [G0979](#) [G3326](#)

πορνῶν, ἤλθεν, ἔθυσας αὐτῷ τὸν σιτευτόν μόσχον!
 فاحشوں کے آیا ذبح کیا اُس کے لیے کو موٹے بچھڑے
[G4204](#) [G2064](#) [G2380](#) [G0846](#) [G3588](#) [G4618](#) [G3448](#)

کروایا۔ ذبح بچھڑا تازہ موٹا لئے کے اُس نے آپ دی، ازا میں کسبیوں دولت کی آپ نے جس آیا بیٹا یہ کا آپ ہی جو لیکن

31 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ, Τέκνον, σὺ πάντοτε μετ' ἐμοῦ εἶ, καὶ πάντα
 لیکن کہا اُسے بیٹے تو ہمیشہ ساتھ میرے بے اور سب
[G3588](#) [G1161](#) [G3004](#) [G0846](#) [G5043](#) [G4771](#) [G3842](#) [G3326](#) [G1473](#) [G1510](#) [G2532](#) [G3956](#)

τὰ ἐμὰ, σὰ ἐστίν.
 جو میرے تیرا ہے
[G3588](#) [G1699](#) [G4674](#) [G1510](#)

ہے۔ کا ہی آپ وہ بے میرا کچھ جو اور ہیں، رہے پاس میرے وقت ہر تو آپ بیٹا، دیا، جواب نے باپ

32 εὐφρανθῆναι δὲ καὶ χαρῆναι ἔδει, ὅτι ὁ ἀδελφός σου οὗτος,
خوشی-منانا لیکن اور شاد-بونا تھا کیونکہ یہ بھائی تیرا یہ
[G2165](#) [G1161](#) [G2532](#) [G5463](#) [G1163](#) [G3754](#) [G3588](#) [G0080](#) [G4771](#) [G3778](#)
νεκρὸς ἦν, καὶ ἔζησεν; καὶ ἀπολωλώς, καὶ εὐρέθη.
مردہ تھا اور جی-اٹھا اور کھویا-بوا اور ملا
[G3498](#) [G1510](#) [G2532](#) [G2198](#) [G2532](#) [G0622](#) [G2532](#) [G2147](#)

بے۔ گیا مل اب تھا گیا ہو گم جو ہے، گیا ہو زندہ اب تھا مُردہ جو بھائی یہ کا آپ کیونکہ ہوں۔ خوش اور منائیں جشن ہم کہ تھا ضروری اب لیکن